

مذاکرات نتیجه‌سندہ باش وکیل ، شورای حربک مقرراتی قبول و یارڈ ایٹک و پوشورای حربک مذاکرانندہ حاضر بولونحق حق و صلاحیتی حائر اولسی تقرر ایتمندی .

فقط بو مقرراتک فرداسندہ ، اسکوت کندیسنگ اتحادملی بی تأمین و شورای حربک مذاکراتی تسریع ایچون ایجاب ایڈن اوصاف و مزایای حائر بولونمدیغنی اعتراف ایتمش اولدیغنه دائر تأمس غزتمسندہ برقره کورونجه ، بو حوادثی لوئید جورجک غزتمله ویردیگی و بوسورتله اسکوتی مشکل برموغده بولک برحق ایستدیگی بک طبیعی ایدی .

ایضاح ایتمدیگی پروگرام بوتون فرقه‌لر زنده شهسز شدتلی برمظاہرت بولجقدر . « (مورننخ پوست دیورہ : « بوتون انگلیز قومی مؤثر صورتده اداره امور ایدهجک برحکومت ایستوی ایدی . ملت بولہ برحکومتک امرلینہ ہرہاہ انقیاد ایدهجکدر . چونکہ بواسری ورنلرک بیچون بولہ برامر ورددہرخی بیہجکدر . « دیگر انگلیز غزتملری ده موسیو (لوید جورج) ک نطقندن طولانی بیان ممنونیت و آلمانیاتک صلح تکلیفنه ورنلین جوانی و حکومت طرفندن مملکتده پاییلان حرب بولتیغہسی تصویب ایدیورلر .

تبلیغ رسمی

- ۹ کانون اول ۳۳۲ تاریخیلہ قرارکام
- عمومیدن تبلیغ اولتمشدرد :
- ۱ - ایران جہسندہ ہمدان شالندہ روسلرک باسقیں تشباتی صا طرد ایلدی .
- ۲ - فلاحیہ جہسندہ وفلا جنوبندہ کی موضعلردہ طویچی محارباتی دوام ایدیور .
- ۳ - سائر جہلردہ حائر اہمیت وقعہ اولدی .
- « ملی »

حوادث داخلیہ

سلامتق رسم عالیسی

سلامتق رسم عالیسی بو کون طولہ باغچہ صکرہ اللہ جامع شریفندہ اجرا بیورولمشدر .

شوکتنام اقدمز حضرتلری جامع شریفہ مواصلترندہ شورای دولت رئیس و اوقاف ہایون ناظر وکیلی ابراہیم بک ، شہرامینی بدری ، بولیس مدیر عمومی احمد ، حربیہ مستشار معاونی فخرالدین و مرکز قوماندانی جواد بک اوغلی متصرفی کافی بگلرہ سائر مامورین وامرای عسکرہ طرفلرندن استقبال اولتمشدرد .

* شورای دولت رئیس ابراہیم بک افندی محفل ہایوندہ حضور ہایونہ قبول بیورولمشدر .

* ذات حضرت پادشاهی صلاہ جمعہ دن صکرہ طولہ باغچہ ساحلسرای ہایونہ شرفعاودت بیورولمشدر .

* سلامتق رسم عالیسندہ رفیقہسی ایلہ حاضر بولان بلغارستان نظار سابقہسندن موسیو (دانف) مظهر التفات شہریاری اولمشدر .

غازیلر مزہ توتون ہدیہسی بک اوغلی آلمان مکشی شاکردلری مدیر مکتب دوکتور (طومبسی) بک تشبئی اوزریتہ عالیچیا و دو برچہدہ غازیلر مزہ توتون ہدیہسی اولہرق آرمزندہ (۲۴۴۰) غروش ، (۱۷۹۰) پاکت توتون (۵۸۷۰) سیغارہ ، (۳۹۱۰) سیغارہ کاغدی (۱۵) یاقاق طویلاملشدر .

* شہر غزده بولان آوستریا بچار مفرزلری عالیچیاہ حرب ایتمکدہ اولان غازیلرمن ایچون آرمزندہ (۳۸۵۶) پاکتداتر توتون جمع ایتمشدر .

صلح تکلیفی و ہر وہیہ کورہ نتایجی

برلین ۲۰ کانون اول [آ . م] - (ہر وہیہ) اتفاق سربک صلح شرائطی تدقیق ایلملی حقندہ سوسیالیستلرک اتخاذ ایلمدی مقررانی شرح و تفسیر ایدرک صلحک نتایجی فرانسدہ اتحاد عناصر و فرق مختلفہ ایچون غایت و خیم اولہجغنی و آلمانیہ ضبط ایتمدیگی برلرک غلیبہسی تکلیف ایدر ایسہ بوندن بالکنز سوسیالیستلرک دکل زراع صنتک دخی ممنون قالہجغنی و بوسمتلہ ائتلافک قوہ معنویہسی کسر ایدهجی کی جہوریتک قلع و ازالمسی دخی حاضرلیجغنی بیان ایلمشدر .

آلمان غزتملرینک مطالعاتی

برلین ۲۰ کانون اول [آ . م] - انکترہ باش وکیلی (لوید جورج) ایلہ فرانہ باش وکیلی (بریان) ک آلمانیاتک صلح تکلیفی حقندہ ایراد ایتمکری نطقلرک تفصیلاتی ورود ایلمشدر . بونطقلر اصلا باعث حیرت اولامشدر . برلین بوسہسندہ نطقلر ہیچ برتأثیر حصولہ کتیرہمشدر . آلمانیہ غزتملری ساکنانہ ووقورانہ برسان استعمال ایدرک صلح تکلیفنه ورنلین بوجوابلرک طوغریدن طوغری بہ رد اولدیغنی و چونکہ انکترہک حربیہ تعقیب ایلمدیگی غایہلرک صلحہ اساس اولہرق موضوع بحث و مذاکرہ اولہمیہجغنی بیان ایدیور . « فوسیتہ جایتونق » غزتمسی دیورہ :

« دیشلرخی غجیرداتمندن بشقہ برمنانی افادہ ایتمین بونطقلرندن الہ آلہجق برکبہ بیہ بوقدر . حقایق احوالک مقتضیاتہ رغما دشمن شمدیک حقیقہ سرفرو ایتمک ایستہمیور ویکرمی سکز آباتی بر محاربتہ دن صکرہ میدانہ جیقانی آلمانیاتک قدرتی و کندی قوتلرینک عدم کفایہسی اعتراف ایتمکدن چکینور . مذاکرات صلحیہ کیریشلیدیگی زمان ایتمک کندی علیہلرندہ نتیجہلہجکشدن طولانی دشمنلرک اندیشہسی اودرہدہدرکہ آلمانیاتک نہکی شرائط صلحیہ درمیان ایدهجی حقندہ بیہ برقید آلتہ کومکسزین ایراد سؤالدن بیہ چکینورلر .

« برلین دوپیچہ تاہ سچایتونق » غزتمسی دیورکہ : « (لوید جورج) مذاکراتہ کیریشتمک ایستہمیور . انکترہ باش وکیلیک نقطہ نظری ایلہ آلمانیاتک صلح اساسی آرمسندہکی اوچوروم او قدر دریندرہ اک تیکین اولانلر بیہ طرفین آرمسندہکی تضاد اوزرندہ بر جسر ائتلاف قورہلہیہجکشدہ امکان و برہمہمکدہدر .

« برلین تاغیلات » غزتمسی دخی فرانز سوسیالیستلرینک ویر چوق انگلیز وینالیاتک صلح حقندہکی بیاناتی ایما ایدرک شو مطالعاتی سرد ایدیور : « بویانات ملترک صلح تکلیفی حقندہ بوروندکری محاکمک قایتہلرک محاکمندن بستون بشقہ اولدیغنی کورسریور .

« برلین میٹاغ جایتونق » غزتمسی دخی دیورکہ : « دشمن ناظرلرینک ایراد ایلمدیگی نطقلر « تان » غزتمسنگ اعترافاتی ماسکدن بشقہ برشی دکدر . « تان » دیورکہ : (بز حال حاضرہ صلی قالہ آلہماز . چونکہ آلمانیہ مظفر بولنیور .)

« دوپیچہ تاہ سچایتونق » غزتمسی (نابولیون) زمانندہ انکترہک اجرا ایلمدیگی رول ایلہ بکونکی دولی آرمسندہ فرق اولدیغنی بیان ایلدوب بونفری بروجہ آتی ایضاح ایدیور . « یوزسنہ اول بکونکی تحت البحرلر موجود دکل ایدی .

« فروغ جایتونق » غزتمسی دخی ائتلافک جوابی طوغریدن طوغری بہ رد واستکاف ماہیتندہ اولدیغنی بیان ایدرک دیورکہ : بوجواب رد ایلہ ہر ایکی زمرہ دولیہک غیرت حربیہسی صوک درجہدہ کسب شدت ایدهجکدر . کرک اتفاق سربک کرک ائتلاف زمرہسی ملترلرینک بتون قوخی استحصال ظفرہ حصر و تخصیص ایلملری لازم کلور . بنا علیہ بز دخی بتون وسائط حربیہسز غایت عظیم تأثیر حصولہ کتیرہجک صورتدہ انکشاف ایتمککمز اقتضا ایدیور .

آرق انکترہ بی بر (ترالفالغار) محاربتہ کیریشتمکہ جرأت ایتمک ایستور . شدیدی بہقدر انکترہ بولہ بر محاربتہ میدان ورمہمک کل اعشا و اہتمام ایلہ جالبشور ایدی . بوحال انکترہک کندیسی نہقدر بیوک تہلکدہ کوردیکندہ دلالت ایدیور .

بوکونکی آلمان تبلیغی

برلین ۲۱ کانون اول [آ . م] - (رسمی) آفشام حرب راپوریدر : بعض متعلقلردہ وقوع بولان طویچی آتشی مستننا اولہرق جیہہ حربلرندن ہیچ برندہ بیوک برحرتک حربیہ اولامشدر .

مترق حوادث

اسکوتلہ لوئید جورج آرمسندہ معلوم اولدیغنی اوزرہدہ تر آزانسی اسکوتیک استعفاسی اہمیتسز برحادثہ اولہرق تصویب ایتمش ایدی . فقط اسکوتیک لیبرال فرقمسی حضورندہ وقوع بولان بیاناتندن استدلال ایلمدیگنہ کورہ ، حادثہ شو صورتلہ جریان ایتمشدر . اسکوتیک ایرد جورج ایلہ اجرا ایتمش اولدیغنی

تعیین ہوتی ایچون سرد ایتمک . تکلیفزدہ ایلمدیگی تقدیردہ ، کلہجک ایٹک بہار محارباتی بزہ ہر زماندن دہا قوی بولہجقدر . استاندہ تشکل ایڈن جسور ، ملی اردولر ، رومانیاتک اضطلاعلہ تصرف ایڈیان قوتلرہ خدمت ملکیہ معاونہ قانونک آلمانیہ بخش ایدهجی مبدولیت قوا ، ہیچ شہسز بیں قطعی ضرہلری ایقاعہ مقتدر برضاندرد . بو اعتبار ایلہ دشمنلرک جوابی ہر زماندن دہا صناعلام بر معنویت و دہا مغرور بر آغیر باشلیقلہ بکلہ بیلیوز .

باقتربولوغ دوکتور
پہان شرف الدین
یاستور وقوع استیورندہ اوزون مدت بولمشدر . تیغہ ورم و سار امراض ساریہ ، عمدہ و باغرضاتک متخصمی امراض ساریہ ویل صفولتی آشیری قان وادار تخلیلی باقتربولوزی معایناتی فرنگی تداویسی شہر امامتی قریندہ فواد پاشا جادہسی نومبر ۱۴ تلفون نومرسی ۳۳۳۳

ادرنہدہ ۱۲ ، از میردہ ۱۹ ، انقرہدہ ۱۱ ، بغداددہ ۲۳

۹ کانون اول ۳۳۲ تاریخندہ قبل الزوال درجہ حرارت درسعادندہ ۹ واتی کوبندہ ۹

ادرنہدہ ۸ از میردہ ۱۷ ، انقرہدہ ۹ ، بغداددہ ۹

۹ ویانہدہ ۱ صوفیہدہ اوج درجہدر .

دوشن باغورک مقداری درسعادندہ ۲ ، واتی کوبندہ ۴ ، ادرنہدہ ۷ ، از میردہ ۳ ، انقرہدہ ۲ صلیبترہدر . (ملی)

ضایع جزدان - قوجہ مصطفی پاشا شعبہسندن آلدیم عسکری وثیقہملہ بدل تقدی مقبوضی واصناف تذکرہمی ایچی بوز آلتش غروش اوراق تقدیمی حاوی جزدانی ضایع ایتم . ہرکیم بولدیہہ نقد کندیسنگ اولقی اوزرہ بک اوغلندہ توئل میدانندہ ۵۱۹ نومرولی زاخواریولک دکاندہ فونلی اوغلی پانی بہ کتیردیگندہ آروچہ ممنون ایلمدیجکدر .

ضایع وثیقہ - افسرای اخذ عسکر شعبہسندن آلتش اولدیم ۱۸۰۰ نومرولی وثیقہعسکرہمی دون سلطان احمد ایلہ دیوان بولی ارمسندہ ضایع ایتم بولان آئیدہکی آدرسہ تسلیم ایتمدی تقدیردہ ممنون ایلمدیجکدر . طویقیو فروندہ خیرکار سلیم

زاعیم اوغلی جزہ نامنہ خاصکوی اخذعسکر شعبہسندن آلتش اولدیم عسکری وثیقہمی جزدانلہ برابر ضایع ایتم یکینی آلہجکشدن اسکیتسنگ حکمی اولیہ جی اعلان اولنور .

دیون عمومیہدن :

تقسیمتک وعدہسی ۲۴ مارت سنہ ۱۹۱۱ تاریخندہ حلوق ایلدوب ۲۴ مارت سنہ ۱۹۱۷ تاریخندہ قدر بدل استیفا ایلمدن ۱۵ نومرولی دیون میدلہ موجودہ عثمانیہ قیونلرک فی ۲۸ محرم ۱۳۳۸ (۲۰-۸ کانون اول سنہ ۱۸۸۱) تاریخنی نظامنامہ ہایونہ سرپوٹ فی ۱۴-۱۱ ایلول سنہ ۱۹۰۳ تاریخنی نظامنامہک بشنہی مادہسی ایجابجہ ابطال ایلمدیگی اعلان اولنور .

صاحب امتیاز عثمانیہ | مدیر مسئول رحمت